



## سوال

(720) اجتماعی دعا کے متعلق سعودی علماء کا موقف

## جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

بعد جماعت کے اجتماعی دعا کے متعلق "الاعتصام" کے گزشتہ کسی شمارہ میں مفتی مکہ مکرمہ کا عدم جواز کا فتویٰ دیکھا گیا، لیکن مختصراً "فتاویٰ علمائے حدیث" (۲۱۳/۲) جامعہ سعیدیہ خانیوال۔ پھر دعا کے جواز بلکہ افضلیت "فتاویٰ نذیریہ" (ص: ۵۶۳) پر کتاب، ص: ۲۱۸ تک ملاحظہ فرما کر جواب دیں۔

## الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے پر "الاعتصام" میں متعدد دفعہ لہجاً اور تفصیلاً بحث ہو چکی ہے۔ "فتاویٰ نذیریہ" میں بحوالہ "ابن ابی شیبہ" نقل کردہ روایات پر بھی تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے۔ بار بار اعادہ کی چنداں ضرورت نہیں ہے۔ ما حاصل اس کا یہ ہے، کہ اس بارے میں کوئی روایت ثابت نہیں۔

اسی بناء پر سعودی عرب کے بعض جید علماء مثلاً شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے اس کو بدعت قرار دیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا، کہ بحالت تشہد سلام پھیرنے سے قبل بکثرت دعائیں کرتے تھے، جن کی تصریح کتب احادیث میں موجود ہے اور سلام پھیرنے کے بعد ذکر اذکار میں مصروف ہو جاتے۔

ہذا ما عنہدی واللہ اعلم بالصواب

## فتاویٰ حاقظ ثناء اللہ مدنی

کتاب الصلوٰۃ: صفحہ: 623

محدث فتویٰ